



سٹی آف برامپٹن کی منتخب شدہ سہولت گاہیں، 22 ستمبر سے ویکسین لگوانے کا ثبوت مانگیں گی

برامپٹن، آن (17 ستمبر 2021) – حکومت اونٹاریو کے [ضوابط](#) اور [رہنماء ہدایات](#) کے مطابق مخصوص سہولت گاہوں میں داخلے کے لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کی روشنی میں بروز بدھ، مورخہ 22 ستمبر سے سٹی کی منتخب شدہ ملکیتی سہولت گاہوں، بشمول تفریحی مقامات، کھیلوں، ثقافتی اور انٹرٹینمنٹ کی سہولت گاہوں میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنا لازمی ہو گا۔ حکومت اونٹاریو کے ضوابط کے مطابق اہل افراد کو اس شرط سے استثنیٰ بھی دیا جائے گا۔

صوبائی قواعد و ضوابط کے مطابق، ویکسین لگوانے کا سرٹیفیکیٹ اندرونی مقامات میں داخلے پر پیش کرنا ہو گا، مثلاً:

- ایسی سہولت گاہیں جو تفریحی تندرستی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہوں، بشمول واٹر پارکس، ذاتی جسمانی تندرستی کے تربیت کار
- ایسی سہولت گاہیں جہاں پر تماشائی بھی بیٹھتے ہوں
- میٹنگ اور تقریبات کے مقامات، بشمول کانفرنس سنٹرز یا کنوینشن سنٹرز
- کنسرٹ کے مقامات، تھیٹرز اور سینما
- کیسینو، بنگو ہالز اور اس طرح کے دیگر مراکز
- ریسٹورینٹس، بارز اور کھانے پینے کی اشیاء کے دیگر کاروبار
- اندرونی اور بیرونی، دونوں اقسام کے کھانے یا پینے کے کاروباری ادارے جہاں پر رقص کی سہولیات فراہم کی جاتی ہوں، بشمول نائٹ کلب، ریسٹو کلب اور اسی طرح کے دیگر ادارے

درج ذیل مقامات پر ویکسین لگوانے کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا:

- لائبریریاں، عدالتی عمارات یا ضروری شہری خدمات تک رسائی کے مقامات، جیسے ٹیکس بلوں کی ادائیگی یا بلڈنگ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے
- کسی منظم شدہ کھیل میں حصہ لینے والے 18 سال سے کم عمر بچے، مگر تماشائیوں بشمول والدین اور سرپرستان کو ویکسین لگوانے کا ثبوت لازمی طور پر دکھانا ہو گا۔
- ڈے کیئر، چائلڈ کیئر اور سوشل سروسز کے لیے استعمال ہونے والے کرایہ کے مقامات
- شادی کی تقریبات، مذہبی سروسز/رسومات اور تجہیز و تکفین (صرف تقریبات)
- ذاتی رہائش گاہ پر منعقد کیے جانے والے اجتماعات
- بیرونی مقامات پر تقریبات

ویکسین کے سرٹیفیکیٹ کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کرانے میں معاونت کے لیے، حکومت اونٹاریو کے پاس دستیاب وسائل کے بارے میں [کاروباری اداروں کے لیے رہنمائی](#) موجود ہے۔ مکمل تفصیلات [حکومت اونٹاریو کے قواعد](#) میں دستیاب ہے۔

سٹی کی سہولت گاہوں میں ویکسین لگوانے کے قابل قبول ثبوت

ویکسین لگوانے کی حیثیت کے ثبوت کے مندرجہ ذیل طریقوں کو اس وقت قبول کیا جائے گا جب وہ سٹی آف برامپٹن کی سہولت گاہوں میں آتے وقت اپنے ساتھ ذاتی شناخت کا کوئی اضافی ثبوت بھی لائیں گے:

1- [ویکسین کی مدافعت کے ثبوت کی رسید](#): یہ صوبے کی آن لائن [کووڈ-19 ویکسین پورٹل](#) سے یا براؤنشل ویکسین بکنگ لائن کو 1.833.943.3900 پر ٹیلیفون کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

2- [اونٹاریو کی اضافہ شدہ ویکسین کی ڈیجیٹل رسید](#): حکومت اونٹاریو اس اختیار کو اکتوبر 2021 میں متعارف کرا رہی ہے۔ ویکسین کی ڈیجیٹل رسید کو آپ اپنے موبائل فون میں رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس اختیار کے حوالے سے مزید معلومات دستیاب ہونے پر فراہم کر دی جائے گی۔



30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca